

مابانہ ورک فورس انوویشن اینڈ اپرچونٹی ایکٹ (Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA) روزگار کی تلاش کی سرگرمیوں کا ریکارڈ (Urdu)

نام:

کیس نمبر:

اگر آپ سپلیمنٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) کے فوائد جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو درج ذیل شرائط پوری کرنی ہوں گی:

- ہر ماہ کم از کم 80 گھنٹے ملازمت کی تلاش یا کسی منظور شدہ روزگار سے متعلق سرگرمی میں حصہ لینا۔ اور

- اپنی نوکری تلاش کی کاوشوں کا ثبوت ہر ماہ جمع کرانا۔

اپنی پیش رفت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اگلے صفحے پر موجود فارم استعمال کریں۔ مکمل فارم پر دستخط کریں اور تاریخ لکھیں، پھر اسے PACE فراہم کنندہ (جس کا ذکر آخری صفحے پر ہے) کو واپس کریں۔ یہ ثبوت ہر ماہ کے اختتام سے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

مندرجہ ذیل مثالیں ان سرگرمیوں کی ہیں جو آپ اس فارم میں درج کر سکتے ہیں تاکہ مطلوبہ 80 گھنٹے مکمل ہوں۔ یہ فہرست مکمل نہیں

- نوکری کی تلاش ہے۔

- دستیاب نوکریوں کی تلاش کرنا۔

- روزگار کی درخواستیں پُر کرنا اور جمع کرنا (آن لائن یا بالمشافہ)۔

- نوکری کے انٹرویو کی تیاری یا شرکت کرنا۔

- روزگار سے متعلق ورکشاپس میں شرکت یا جاب پلیسمنٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ کام کرنا۔

نوکریوں کے مواقع تلاش کرنے کے لیے استعمال کریں: <https://jobzone.labor.ny.gov> یا

<https://myjobsny.usnlx.com/jobs>



نیو یارک اسٹیٹ کی دستاویزات

JobZone

نوکریاں تلاش کرنے اور درخواست دینے کے لیے کوڈ اسکین کریں۔

اپنی مہارتوں کے مطابق نوکریاں تلاش کرنے کے لیے کوڈ اسکین کریں۔

ویب سائٹ: <https://myjobsny.usnlx.com/jobs>

ویب سائٹ: <https://jobzone.labor.ny.gov>

نوٹ: ہم آپ کو نوکری تلاش کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن صرف وہ وقت شمار ہوگا جو ان مخصوص ویب سائٹس پر صرف کیا گیا ہو۔ براہ کرم اگلے صفحے پر دیگر جاب سرچ ویب سائٹس درج نہ کریں۔

ماہانہ ورک فورس انوویشن اینڈ اپرچونٹی ایکٹ
(Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA)
روزگار کی تلاش کی سرگرمیوں کا ریکارڈ (جاری)

یہ فارم PACE فراہم کنندہ کو واپس کرنے کے طریقے

_____ ای میل —



دستاویزات کی نقول اس پتے پر:

_____ بذات خود —



_____ فیکس یہاں ارسال کریں:

